

بچوں کے لئے بائبل
تحائف



خوب صورت
مُلکائی استہر



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: Janie Forest
Alastair Paterson

کے مطابق: Ruth Klassen

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



اکہ وقتہ اُس اکھ خوب صورت کور یمس ناو اوس استہر۔ ییلہ تھی سُنڈ مول تہ
موج مؤدی، استہر رچھ تھی سُنڈی پتری بائے موردیگا بن۔ استہرن اُس پنہ نس
پترس بایس یزتہ سان فرمابرداری کران چونکہ سو اُس اکھ رژ کور۔





استهَر رُوَز فَارَسَس مَنَز - مَگر، اسْتَهَر اَس نِه پَارَسِي - سَو اَس
يَهُودِي - تَمِي سُنْدِي جَد اَسِي جَنگِي قَادِي يِن بِنْدِي رُنْگِي پَارَس
اَمْتِي - اسْتَهَر سُنْدِي وَقْتِه اَسِي پَارَسَس مَنَز وَاَرِيَاہ يَهُودِي رُوَزَان -



دَرَسِ دُنْيَا هِيكِين شَهزَادَن هِنْدِي خَاطِرِ كُورِ فَارِسكِي بَادشَاهِن اَكِه سِيْطَهَاهِ بَجِه

ضِيَاْفَتِ هُنْدِ سُنزِ - مَرْدِ اَسِ تِمُو

زَنَانُو نِشِه دُورِ كِهِيَوَانِ يِمِ

مُلْكَايِه وَسْتِهِي سِيْ اَسِي

ضِيَاْفَتِ كِهِيَوَانِ - تَمِه شِرَابِه

سِيْ مَسْتِ بَادشَاهِن دِيْتِ

مُلْكَايِه وَسْتِهِي حُكْمِ زِ سُو

لَاگِه شَاهِي تَاَجِ تِهِ هَاوِ پِنِي

خُوبِ صُورْتِي - مُلْكَايِه

وَ سْتِهِي كُورِ تَتِه اَنكَارِ -



يہ ہاؤنہ خاٲر ز زنانن پز خاندانن يزتہ
گرن، تم بادشاہن کور اکھ قانون
نافذ یمہ ستی وستھی تاج او نینہ۔
وونی روز نہ سو ملکانی کینہہ۔



آڪھ نُوو مُلڪانِي بناونہِ خَاطِرِ
آيہِ ژھانڈِ دِنہِ۔ تمام سلطنتِ چو
خوب صورت کُورِيو منڙِ ژار
تُمي بادشاهنِ استھَر پَنِي
زان۔ تُمي تھووو تھنڊس
ڪلس پيڻھ شابي تاج۔
استھَرنَ وُون نہِ تُمس
بادشاهس سو چھِ يھودي
تِڪيازِ تُمس اوس پَنِي پَتِري
بأَمي يہ ونہِ نسَ منع کورمت۔






استھر ہنز خبر بوزنہ خاطرِ گزور تھی
سندی پتر بائے موردیگاہن محلہ کس
دروازس پیٹھ پنن وقت۔ اکہ دوہ بوز تھی
اتفاقن ز محل خانکی خدمت گار اسی
تھس بادشاہس مارنچ ژوئے کران۔
موردیگاہن سوز اکہ خبرداری ییمی سٹی
بادشاہ او بچاونہ۔ تمن خدمت گارن آیہ
پھاسی دنہ، تہ موردیگا سندا ناو او بادشاہ
سنر کتابہ منر درج کرنہ۔



ٲمس بادشاه سُنْد نائِب اوس اكه اَمير شخص يِمس
ناو اوس هاماَن- هَر كاَنه اوس سجدِ كُران يِله هاماَن تَمَن
كِنى نيران اوس- هَر كاَنه- صرف نِه اكه شخص-
موردىكاَ بحثيتِ اكه يهودى، اوس صرف اُكس زندِ
خدائس عبادت كران-



ہامان اوس موردیکاہس واریاہ نفرت کران ثمی نیو فاصلہ سہ تہ پارسس منز تمام
یہودی مارنک فاصلہ۔ کوتاہ تکلیف دنہ وول! بدکار ہامان گر بادشاہس چال ہیوت
نس اُکس قانونس پیٹھ دستخط کرتہ۔ ز اُکس خاص وقتس تام ییہ ہر کانہہ یہودی
یُس اتہ سلطنتس منز آسہ ییہ قتل کرنہ۔







یہ اوس اکھ خطرناک
قانون - دونوے یہودیو تہ پارسپو
کور ماتم - مگر یاد تھاو - خداین
اَس استہر مَلکانی بناؤمژ - سو اَس
اکھ یہودی - کیاہ سو تھاو ہرے
ٹمس بادشاہس نش راز؟ یا، کیاہ
سو بیہ ہرے موتوک خطرِ ملی تہ
بچاو ہرے پنہ نین لوکن؟



خداین دیت استهرسّ اکھ واضح خیال۔ تُمی دژ تُمس بادشاهس تہ ہامانس اُکس
ضیافتس پیٹھ دعوت۔ تہ کور تَمہ بادشاہن تُمس کانہہ تہ چیز دِنکُ وعدِ یہ سو
منگہ۔ استهرن دیت جواب، "چلو بادشاہ تہ ہامان وَاَتِن تہ دعوتس منز۔۔۔ پگاہ۔"
پتہ ونہ سو کیاہ چہ یژہان۔



أتهى دوران، هامانن كورا كه
بوڈ بار پههه كوٹ مورديكاهس
پهاسه دنه خاطر تيار-



بادشاهس آيه نه تته راژ نندر۔ ييله ثمي شابي درباركي
كاروايين بندي تحرير پري۔ موردیکا بس اوس نه زانه
بادشاه سنز زندگي بچاونس بيٹھ انعام دِنه امت۔

صبحس، ثمي بادشاهن پرژھ هامانس، "ثمس

شخصس كياه گزهي دِنه ين يس بادشاه

سنز يزته افزايي كر؟"

هامان گوو خوش۔

ثمي سونچ بادشاهن وون ميخ!





ہامان اوس ٹمس بادشاہس موردیکا ہس پھاسی دنگ اجازت
ہینہ خاطر امت۔ پھہہ کوٹی اسی ساری تیار۔ وونی سہ کتھ
کری ہے انتظار۔ جوشہ سان، ہامانن گر پنی تجویز پیش۔
"لاگو ٹمس شخصس شاہی پوشاک تہ تاج۔"





ٲمي بادشاهن ديت هامن نس حُكم، "بادشاه سُندس
گرس پيٲه گري وون سوار۔ د اُكس شابهى شهزادس حُكم
سُه پكه ٲمس شهر مَنزى بزونه بزونه تاكه لوكه وُچهن
ٲمس۔" "جلدى كَر، تِه يِه كَر يهودى موردىكا
سُندى باپتِه۔"



توہی کیاہ چھو سونچان ہامانّ نس کیاہ اُسہرے محسوس گوّمته
ییلہ تُمی مورديکاّ یزتہ سان شہرس اندی اندی پھرنؤو؟ تُم گری
مورديکاّ ہس برؤنمہ کھوتہ زیادِ نفرت۔ ہاماننّ ما
اُسہرے سؤنچمت۔

"ہناہ ٹھہر، یہ

مرِ جلدیے

تِمن باقے


سارنہ

یہودین

ستی ستی۔"



تَمِّ دوه پټه، هاماڼ ته بادشاه ووت
استهرانس دعوتس منز. بادشاهن
وونس، "چاڼي عرضي كيا چه؟"
بادشاهن اوس نه پنن وعده
مشروومت كينه. ملكايه
استهرن، هاماڼ نس كن باويته
وونن بادشاهس هاماڼ نين تمام
بدكار سازشن متلق. بادشاهن
وون، "تمس ديو پهاسي!"



پتہ کور تم بادشاہن دویم قانون لاگو ییمہ ذریعہ یہودین پنی حفاظت کرنک اجازت
دینہ آؤ۔ تم آیہ بچاؤنہ! موردیکا بنہوؤ تمس بادشاہ سنڈ نایب تہ تمام یہودیو مناؤ
خوشی تہ دتکہ اکھ اکیس تحفہ۔ حتی کہ از تہ، یہودی لوکن چہ یاد خداین
کتہ پاٹھی بچاوی تم خوب صورت ملکایہ استہر نہ ذریعہ۔



خوب صورت مُلکائی استھر

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

استھر

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

